



سوال

(68) مسلم، کافی کا وارث نہیں ہوتا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک ماں باپ کے آٹھ بچے ہیں جن میں سے چار لڑکے ہیں اور چار لڑکیاں ہیں یہ سب عیسائی تھے لیکن اب ان میں سے تین لڑکے اور ایک لڑکی مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے بہت دولت چھوڑی ہے جو کہ اٹھارہ ملین سعودی ریال کے قریب ہے تو کیا اس متوفی کافر شخص کی مسلمان اولاد وارث ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر امر واقع اسی طرح ہے تو کفر پر مرنے والے شخص کی مسلمان اولاد اس کی وارث نہیں ہوگی، اس مسئلہ میں اصول وہ حدیث ہے جسے امام بخاری و مسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لایرث المسلم الکافر، ولا الکافر المسلم)) (صحیح البخاری)

”مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔“

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 65

محدث فتویٰ